

AGA KHAN UNIVERSITY EXAMINATION BOARD

SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE

CLASS IX EXAMINATION

MAY 2012

Physics Paper II

Time allowed: 2 hours 25 minutes Marks 40

ہدایات

درج ذیل ہدایات کو غور سے پڑھیے۔

- آپ اپنام اور اپنے اسکول سے متعلق کوائف کو غور سے پڑھیے اور تصدیق کیجئے کہ وہ درست ہیں۔

میں تصدیق کرتا / کرتی ہوں کہ میرا اور میرے اسکول کا نام درست ہے۔

امیدوار کے دستخط

- 2 خصوصی ہدایت: اس پرچے میں کل نوسوالات ہیں۔ تمام سوالوں کے جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 7، 8 اور 9 میں دو دو اختیاب دیے گئے ہیں۔
ہر ایک میں سے کوئی ایک حل کیجیے۔

- 3 اپنے جوابات لکھنے وقت ان باتوں کا خیال رکھیے:
ہر سوال کو غور سے پڑھیے۔

شکل کے لیے سیاہ پنسل استعمال کیجیے۔ رنگین پنسل ہرگز استعمال نہ کیجیے۔
کسی بھی قسم کی پن، گوند یا سیاہی مٹانے والی کوئی بھی چیز استعمال نہ کیجیے۔

صفحے کے چوکھے (باکس) کے باہر کچھ نہ لکھیے۔ اپنا جواب صرف دی گئی سطور میں مکمل کیجیے۔

- 4 ہر سوال کے نمبر تو سین () میں دیے گئے ہیں۔
اگر آپ چاہیں تو سادہ کیلو لیٹر استعمال کر سکتے ہیں۔

(کل 3 نمبر)

سوال-1


(اف) دی ہوئی جدول کو مکمل کیجیے۔

علامت	ایس-آئی اکائی	طبعی مقدار
		کمیت
		برقی رو
		روشنی کی شدت

(کل 6 نمبر)

سوال-2

ولاٹی ٹائم گراف ایک سیدھی ہموار سطح کی سڑک پر سائکل سوار کی حرکت کو ظاہر کرتا ہے۔



i. 5 سینٹروں کے بعد سائکل سوار کی ولاٹی کیا ہوگی؟

-

ii. وقت کے کس حصے میں سائکل سوار میں اسراع (acceleration) نہیں ہو گا؟

-


iii - 5 سیکنڈوں کے دوران کتنا فاصلہ (d) طے ہو گا؟

iv - تخفیف اسراع (deceleration) معلوم کیجیے۔

(کل 3 نمبر)

سوال-3

ایک یکساں راڈیانیں جانب کے سرے پر 2 kg کی کمیت سے متوازن ہوتی ہے۔



دی گئی شکل میں معلومات کو استعمال کرتے ہوئے راڈ کا وزن معلوم کیجیے (جب کہ $g = 10 \text{m/s}^2$)

(کل 3 نمبر)

سوال-4

زمین پر موجود قوتوں میں سے ایک زمین کی کشش نشل (pull of gravity) ہے۔

ایسے تین حقائق بیان کیجیے جو زمین پر کشش نشل کی اہمیت کی وضاحت کرتے ہوں۔

(کل 6 نمبر)

سوال-5

(2 نمبر)

(الف) تو انائی کے قابل تجدید (renewable) اور ناقابل تجدید (non-renewable) ذرائع کے درمیان فرق بیان کیجیے۔

تو انائی کے ناقابل تجدید ذرائع	تو انائی کے قابل تجدید ذرائع	
		1
		2

(4 نمبر)


(ب) تو انائی کے قابل تجدید اور ناقابل تجدید ذرائع کی دو دو مثالیں دیجیے۔

تو انائی کے ناقابل تجدید ذرائع کی مثالیں	تو انائی کے قابل تجدید ذرائع کی مثالیں	نمبر شمار
		1
		2

(کل 4 نمبر)

سوال-6

دی گئی شکل میں دکھائے گئے اعمال (processes) کو بیان کیجیے۔



(کل 5 نمبر)

سوال-7

(الف) نیوٹن کی حرکت کی دوسری مساوات اخذ کیجیے جب ایک جسم وقت t پر ابتدائی ولاستی V_i اور مستقل اسراع (constant acceleration) a کے ساتھ حرکت کر رہا ہو۔

٦

(ب) کیمیت (mass) اور وزن (weight) کے درمیان کوئی پانچ فرق بیان کیجیے۔

(کل 5 نمبر)

سوال-8

(الف) کن شر اکٹ میں کام کھلاتا ہے ثبت، منقی اور صفر؟

ثبت اور منقی کام کی ایک ایک مثال بیان کیجیے۔

یا

(ب) درج ذیل اصطلاحات کی تعریف کیجیے۔

i. اسٹر لیں

ii. ٹینسائیکل اسٹرین

iii. ینگ کامڈولس

نیز اسٹر لیں اور ٹینسائیکل اسٹرین کے فارمو لے بھی تحریر کیجیے۔

(کل 5 نمبر)

سوال - 9

- (الف) تبخر کا عمل (evaporation) ہر درجہ حرارت پر جاری رہتا ہے جبکہ ابال کا عمل (evaporation) مخصوص درجہ حرارت پر ہوتا ہے جس کا تعین خارجی دباؤ (external pressure) سے ہوتا ہے۔ اس بیان کی توجیہ کیجیے۔

یا

- (ب) اشعاں حرارت (radiation) کا عمل حرارت منتقل کرنے کا ایک طریقہ ہے جس میں حرارتی توانائی ایک گرم جسم سے دوسرے جسم میں زیریں سرخ (infra-red) لہروں کی شکل میں منتقل ہوتی ہے۔ اشعاں حرارت کے کوئی پانچ استعمالات پر بحث کیجیے۔

اختمام

Please use this page for rough work

Please use this page for rough work

Please use this page for rough work